

## 69916 - کیا پرنٹنگ پریس کی مشینری پر زکاۃ ہے؟

### سوال

ایک شخص پرنٹنگ پریس کا مالک ہے، کیا پرنٹنگ پریس کی مشینری اور اسی طرح اس میں پائے جانے والے سامان پر زکاۃ واجب ہوتی ہے، یا کہ زکاۃ صرف اس کی پیداوار پر ہے؟

### پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اول:

سوال نمبر ( 74987 ) کے جواب میں بیان ہو چکا ہے کہ فیکٹریوں، اور مشینری، اور آلات جو استعمال کے لیے ہوں نہ کہ تجارت کے لیے، ان میں زکاۃ نہیں، بلکہ اس فیکٹری اور آلات سے حاصل کردہ پیداوار اور منافع جب نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال مکمل ہو تو اس میں زکاۃ ہو گی۔

اس بنا پر؛ پرنٹنگ پریس میں پائی جانی والی مشینری میں زکاۃ نہیں ہے۔

شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ اس جیسا ہی ایک سوال دریافت کیا گیا تو ان کا جواب تھا:

" پرنٹنگ پریس اور فیکٹریوں وغیرہ کے مالکوں پر ان اشیاء میں زکاۃ ہے جو فروخت کے لیے تیار کردہ ہوں، لیکن وہ اشیاء جو استعمال کے لیے ہیں ان میں زکاۃ نہیں، اور اسی طرح وہ گاڑیاں، قالین، اور برتن جو استعمال کے لیے ہوں ان میں زکاۃ نہیں ہے۔

اس کی دلیل ابو داؤد کی حسن سند کے ساتھ روایت کردہ مندرجہ ذیل حدیث ہے۔

سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

" رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کی زکاۃ نکالنے کا حکم دیا کرتے تھے جو ہم فروخت کے لیے تیار کرتے "

اھ

دیکھیں: مجموع فتاویٰ ابن باز ( 14 / 186 - 187 ) .

اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ سے مندرجہ ذیل سوال کیا گیا:

ایک شخص لائڈری کا مالک ہے، بعض لوگوں نے اسے کہہ ہے کہ آپ اس کی مشینری کی زکاۃ ادا کریں، تو کیا ان کی یہ بات صحیح ہے؟

شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جواب تھا:

" زکاۃ تو تجارتی سامان میں واجب ہوتی ہے، اور تجارتی سامان وہ ہے جو اسنان تجارت کرنے کے لیے تیار کرے، اور وہ اس کے پاس آئے اور اس کی ہاتھ سے نکلے، جب بھی وہ اس میں منافع دیکھے اسے فروخت کر دے، اور جب بھی دیکھے کہ اس میں کمائی نہیں ہو رہی وہ اسے فروخت نہ کرے۔

لائڈری کی مشینری تجارت میں شامل نہیں ہوتی، کیونکہ لائڈری کا مالک اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے انسان اپنے گھر میں قالین اور برتن وغیرہ رکھتا ہے، لہذا اس میں زکاۃ نہیں، اور جس نے اسے کہا ہے کہ اس میں زکاۃ ہے وہ غلطی پر ہے "۔

دیکھیں: مجموع فتاویٰ ابن عثیمین ( 18 / 207 )۔

دوم:

اس پرنٹنگ پریس کے منافع میں زکاۃ ہو گی لیکن وہ بھی اس وقت جب وہ نصاب کو پہنچے اور اس پر سال مکمل ہو جائے، تو اس سے دس کا چوتھائی حصہ یعنی اڑھائی فیصد ( 2.5 % ) زکاۃ نکالی جائے گی۔

سوم:

اور پرنٹنگ پریس کی کچھ اشیاء ایسی بھی ہیں جو تجارتی سامان شمار ہونگی، اور یہ سامان ہر وہ چیز ہے جو پریس نے اس ہدف سے خریدی ہیں کہ اسے دوبارہ فروخت کیا جائے گا، چاہے اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کی جائے۔

مثلاً: کاغذ، سیاہی، اور کتابوں کی جلدوں میں استعمال ہونے والی اشیاء کتابیں پریس کی ملکیت ہیں، جو کہ اس نے فروخت کرنے کے لیے چھاپی ہیں... الخ۔

یہ سب اشیاء تجارتی سامان شمار ہونگی اور ہر سال کے آخر میں ان کی قیمت لگا کر اس میں سے اڑھائی فیصد ( 2.5 % ) کے حساب سے زکاۃ ادا کی جائے گی۔

دیکھیں: مجلة المجمع الفقہی ( 4 / 1 / 735 ) سرچ ڈاکٹر وہبہ الزحیلی۔



والله اعلم .